



دارالسلام ٹرسٹ



پیارے بچوں کے لیے

60 سنہری
احادیث

عبدالملک مجاہد حفظہ اللہ



دارالسلام ایجوکیشنل
سسٹم پاکستان

احادیث برائے بچے گروپ



PLAY
GROUP



رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ
دعا کرنا عین عبادت ہے۔

جامع الترمذی: 2929

لَا تَغْضَبُ ②

غصہ نہ کرو۔

صحیح البخاری: 6116

③

لَا تَحَاسَدُوا

ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔

صحیح مسلم: 2564

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

4 لَا تَبَاغَضُوا

ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔

صحیح مسلم: 2564

5 الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ

حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔

صحیح مسلم: 35

6

الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ

نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔

صحیح مسلم: 2553

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

7

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

اعمال کی قبولیت کا انحصار نیتوں پر ہے۔

صحیح البخاری: 1

8

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ

جنت کی کنجی، نماز ہے۔

جامع الترمذی: 4



رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

9 کُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

ہر نیکی صدقہ ہے۔

صحیح البخاری: 6021

10 مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

جو ہمیں دھوکا دیتا ہے، اس کا ہم سے

کوئی تعلق نہیں۔ صحیح مسلم: 3383

11

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا،

جس سے اس نے دنیا میں محبت کی۔

صحیح البخاری: 6168

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

12

اَشْفَعُوا فَلْتُوَجَّرُوا

اچھے کام کی سفارش کرو، تمہیں اجر ملے گا۔

صحیح مسلم: 2627

13

اَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ

مظلوم کی بددعا سے بچو۔

صحیح مسلم: 19





رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

إِتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ

14

تم جہاں اور جس جگہ بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔

جامع الترمذی: 1987

15 خَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنِ

لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔

جامع الترمذی: 1987

16

لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِشِمَالِهِ

تم میں سے کوئی شخص

بائیں ہاتھ سے نہ کھائے۔

صحیح مسلم: 2020

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

17

إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ

بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے،

اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔

صحیح مسلم: 2593

18
اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک

ٹکڑے ہی کو صدقہ و خیرات کر کے بچ سکو۔

صحیح البخاری: 1417



رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

19

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

تم اسی طریقے سے نماز پڑھا کرو
جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔

صحیح البخاری: 231

20

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

میری آنکھوں کی ٹھنڈک

نماز میں بنا دی گئی ہے۔

مسند أحمد: 14037

احادیث برائے پریپ گروپ

PREP
GROUP



رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

21 لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا

نیکی اور معروف کے کسی بھی کام کو حقیر نہ جانو۔

صحیح مسلم: 2626

22 صَلَّةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ

رشتہ داروں سے حسن سلوک،

عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔

المعجم الكبير للطبراني: 7939

23

مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ

فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ

جس شخص کے پاس میرا نام ذکر کیا

جائے، وہ مجھ پر درود بھیجے۔

سنن

النسائي الكبرى:

9889

14

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

24 مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

جو شخص میری سنت سے منہ موڑے

اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح البخاری: 5063

25 مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ

زکاۃ ادا نہ کرنے والا، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوگا۔

المعجم الصغير للطبراني،

145/2، حدیث: 935

26

إِنَّمَا الصَّبْرُ

عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

صبر وہی ہے،

جو ابتدائے صدمہ میں ہو۔

صحیح

البخاری:

1238

15

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

27 إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ

بے شک صدقہ رب تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔

جامع الترمذی: 664

28 إِنَّ اللَّهَ جَبِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے،

خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔

صحیح مسلم: 91

29

إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ

أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

تم میں سے بہترین وہ ہیں،

جن کا اخلاق اچھا ہے۔

صحیح

البخاری:

3559

16

رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

30 لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ

وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، جو لوگوں کا شکر یہ ادا نہیں کرتا۔

سنن أبي داود: 4811

31

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ

جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر

اس چیز کو اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے۔

جامع الترمذي: 2518

32

سَبَابُ الْمُسْلِمِ
فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

مسلمان کو گالی دینا گناہ، اور اس
سے لڑائی کرنا کفر ہے۔

صحیح

البخاری:

17 48

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

33 إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ

اللہ تعالیٰ نے تم پر جائز کاموں میں

ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے۔ صحیح البخاری: 5975

34 مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے

ساتھ ذرہ بھر بھی شرک نہیں کرتا تھا،

وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔

صحیح البخاری: 7487

35

الْيَدُ الْعُلْيَا

خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى

اوپر والا (یعنی) دینے والا ہاتھ،

نیچے والے (یعنی) لینے والے ہاتھ

سے بہت بہتر ہے۔

صحیح
البخاری:
1428

18

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

36 مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ

لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ

جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ عزوجل بھی اس پر رحم نہیں کرے گا۔

صحیح مسلم: 2319

37 خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھتے، اور

دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔

صحیح البخاری: 5027

38

طَلَبُ الْعِلْمِ

فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

علم حاصل کرنا،

ہر مسلمان پر فرض ہے۔

سنن

ابن ماجہ:

19

224

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

39

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

جس نے کسی خیر و بھلائی کے کام کی رہنمائی کی،
اسے نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔

صحیح مسلم: 1893

40

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا

السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

جو ہم پر ہتھیار اٹھالے، اس کا ہم

سے کوئی تعلق نہیں۔

صحیح
البخاری:
7070


20

احادیث برائے نرسری گروپ



NURSERY

GROUP



رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

41 یَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا آسانی کرو، تنگی نہ کرو،
وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

(اللہ کے فضل و عطا کی) خوش خبری دو،
اور (صرف عذاب کا ذکر کر کے) لوگوں کو متنفر نہ کرو۔

صحیح البخاری: 69

42

مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر تواضع و انکسار اختیار کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اسے ضرور اونچا کر دیتا ہے۔

صحیح مسلم: 2588



رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

43 اتَّقُوا الظُّلْمَ ظلم سے بچو،

فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔

صحیح مسلم: 2578

44

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ
مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ
کرے، جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

صحیح البخاری: 13



رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

45 مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

یہ بھی انسان کے اسلام کی خوبی ہے کہ،
جس معاملے سے اس کا تعلق نہیں اسے چھوڑ دے۔

جامع الترمذی: 2317


46

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ

مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے،
جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔

صحیح مسلم: 2699



رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

47 بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

مومن اور کافر کے درمیان بنیادی فرق،

نماز چھوڑنے کا ہے۔

جامع الترمذی: 2620

48


إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ

فَحَيِّدَ اللَّهُ فَشَبِّتُوهُ

جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے،

اور وہ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ کہے، تو اسے يَرْحَمُكَ اللَّهُ کہو۔

صحیح مسلم: 2992



رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

49

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

جس نے ہمارے اس امر (دین) میں نیا طریقہ ایجاد کیا،
جو حقیقتاً اس میں نہیں ہے تو وہ طریقہ مردود ہے۔

صحیح البخاری: 2697

50


مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے،

اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔

صحیح البخاری: 6138



رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

53

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے،
اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے، یا چپ رہے۔

صحیح البخاری: 6138

54

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

اللہ تعالیٰ جس کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے،
اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔

صحیح البخاری: 71



رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

55 لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا

وَلَمْ يَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا

اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور ہمارے بڑوں کی عزت و شرف کو نہ پہچانا۔

جامع الترمذی: 1920

56

مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ

جس نے یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کیے: سبحان اللہ العظیم و بحمدہ،

اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔

جامع الترمذی: 3464



رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

57

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ

وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

جو شخص امانت دار نہیں اس میں کوئی ایمان نہیں،
اور جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔

صحیح ابن حبان: 1/423، حدیث: 194

58

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ

وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ

مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے

(مدد کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ کر) رسوا کرے،

اور نہ اسے حقیر جانے۔

صحیح مسلم: 2564



رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

59 سئل النَّبِيُّ ﷺ اللهُ كَيْفَ نَبِيٌّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ سَوَالَ كَيْفَ كَانَا:

أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ أَفْضَلُ تَرِينِ عَمَلٍ كُونِ سَا هِي؟

قَالَ: الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا

آپ ﷺ نے فرمایا:

نماز کو اول وقت میں ادا کرنا۔ جامع الترمذی: 170

60

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرَتِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ

وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا،

بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔

صحیح مسلم: 2564

پڑھے بچوں کے لیے

60 سُنہری احادیث

اللہ تعالیٰ کے آخری نبی سیدنا محمد ﷺ رہتی دنیا تک بنی نوع انسان کے لیے سرچشمہ ہدایت ہیں۔ آپ کی پاکیزہ زندگی عامۃ المسلمین کے لیے خوبصورت نمونہ ہے جس پر چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ آپ ﷺ کے فرمودات اور اعمال سنتِ مطہرہ ہیں جو احادیث کی شکل میں ہمارے لیے دینی تعلیم اور تربیت کا گرانقدر سرمایہ ہیں۔ زیر نظر 60 احادیث کے مجموعے میں چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کے لیے رسول اللہ ﷺ کی وہ احادیث پیش کی گئی ہیں جن سے نوجوز طلبہ و طالبات زندگی کے اوائل میں روشنی اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔

یہ احادیث ان کم عمر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت کی گئی ہیں جنہیں اپنے بچپن اور لڑکپن میں رسول اللہ ﷺ کی پاکیزہ صحبت میسر آئی اور آپ نے محبت آمیز اور حکیمانہ طریقے سے انہیں دین کی باتیں اور رہنے سہنے کے آداب سکھائے۔ پیارے نبی ﷺ کی یہ آسان اور خوبصورت احادیث کئی سکولوں نے اپنے نصاب میں شامل کی ہیں اور بہت سے بچے اور بچیاں انہیں زبانی یاد کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ بڑے بھی یاد کر سکتے ہیں اور والدین اپنے بچوں کو یاد کروا کے ان کی دینی تربیت کو پختہ کر سکتے ہیں۔ 60 احادیث نبوی چھوٹوں بڑوں سب کے لیے زندگی کی حسین سوغات ہیں۔

دارالسلام ایجوکیشنل سسٹم پاکستان

ISBN 969574369-2



9 789695 743690

